



## いろいろお世話になりました

آپ لوگوں کے تعاون کا بہت شکریہ۔

سبق 48

健太

からだ 体に気をつけて。

اپنا خیال رکھنا۔

کینتا

KARADA NI KIOTSUKETE.

さくら

タイに着いたら連絡してね。

تھائی لینڈ پہنچ کر اطلاع دینا یا رابطہ کرنا۔

ساکورا

TAI NI TSUITARA,  
RENRAKU SHITE NE.

アンナ

はい。いろいろお世話になりました。

جی۔ آپ لوگوں کے تعاون کا بہت شکریہ۔

آنا

健太さんとさくらさんもお元気で。

کینتا اور ساکورا بھی خوش و خرم رہیں۔

HAI. IROIRO OSEWA NI  
NARIMASHITA. KENTA-SAN TO  
SAKURA-SAN MO OGENKIDE.



### گرامر کے نکات

#### ① KIOTSUKETE (اپنا خیال رکھنا)

◆ KIOTSUKETE فعل KIOTSUKEMASU یعنی احتیاط کرنا کی TE شکل ہے  
◆ اس فعل کے مفعول کے ساتھ NI لگایا جاتا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ کس چیز سے محتاط رہیں۔

مثلاً: KURUMA NI KIOTSUKETE. (گاڑیوں سے محتاط رہیں)

#### ② رخصت ہوتے وقت استعمال کے الفاظ۔

IROIRO OSEWA NI  
NARIMASHITA.

آپ لوگوں کے تعاون کا بہت شکریہ



OGENKIDE.

خوش رہیں

SAYÔNARA.

خدا حافظ

AHAHA

آہا



UFUFU

اُفُوُ



صوتی الفاظ



زیادہ منہ کھولے بغیر ہنسنے کا اظہار۔

یہ اکثر خواتین کے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے کو ظاہر کرتا ہے۔

خوشی کے ساتھ قبچہہ لگا کر ہنسنے کا اظہار۔